

Num

Chapter 4

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-בָּרְנָאוֹן בָּרְנָאוֹן אֶת-בָּרְנָאוֹן:**
اور-بولہ یہوواہ سے- سے- اور- سے- اور- سے-
H0413 H4872 H0413 H0175 H0559

کہا، سے بارون اور موسیٰ نے رب

2 **נָשָׂא לֵא-רֹאשׁ בְּנֵי-קְהָת מִתּוֹךְ בְּנֵי-לֵוִי לְמִשְׁפַּחָתָם לְבֵית**
لے کو- سر بنی- بنی- لاری کے- لیے- ان- کے- خاندانوں کے- لیے- گھر
H0537 H5375 H0537 H3878 H4940

אֲבֹתָם:

ان- کے- باپ- دادا
H0001

کرنا۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنوں کے اُن شماری مردم کی قبائلیوں سے میں قبیلے کے [لاوی

3 **מִזֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וּמֵעֵלָה וְעַד בֶּן-חַמְשִׁים שָׁנָה כָּל-בָּא לִצְבָא**
سے- بیٹے- تیس سال اور- اوپر اور- تک بیٹے- پچاس سال ہر- آنے- والا کے- لیے- فوج
H7970 H8141 H4605 H5704 H2572 H8141 H3605 H0935

לְעֵשׂוֹת کے- لیے- کرنے
מְלָאכָה کام
בְּאֵהָל میں- خیمہ
מוֹעֵד: اجتماع
H4399 H0168 H4150

ہیں۔ سکتے آئے کے کرنے خدمت میں خیمے کے ملاقات اور ہیں کے سال 50 کر لے سے 30 جو کرنا درج میں رجسٹر کو مردوں تمام اُن

4 **זֹאת עֲבֹדַת בְּנֵי-קְהָת בְּאֵהָל מוֹעֵד קֹדֶשׁ הַקִּדְּשִׁים:**
یہ خدمت بنی- قہات میں- خیمہ اجتماع پاک کدش ہکدشیم: پاکوں- کا
H2063 H5656 H6955 H0168 H4150 H6944 H6944

ہے۔ بہال دیکھ کی کمرے ترین مُقَدَّس خدمت کی قبائلیوں

5 **וּבָא אֶת-בָּרְנָאוֹן אֶת-פְּרָכָה וְהוֹרְדוּ אֶת-פְּרָכָה**
اور- آئے بارون اور- اس- کے- بیٹے میں- کوچ- کرنے لشکر- کے اور- اتاریں کو پردہ چھجانے- والے- کا
H0935 H0175 H5265 H4264 H3381 H0853 H6532 H4539

וְכִסּוּ اور- ڈھانکیں- اس- سے
כָּהֵן کو
אֶת صندوق
אֶל شہادت- کا
H3680 H0853 H0727 H5715

دیں۔ ڈال پر صندوق کے شریعت اُسے اور اتاریں پردہ کا کمرے ترین مُقَدَّس کر بو داخل بیٹے کے اُس اور بارون تو بے سمیٹنا لئے کے سفر کو خیمے جب

6 **וַיִּתְּנוּ עִלָּיו כְּסוּיָא עוֹר תַּחֲשׁ וּפְרָשׁוֹ בְּגָד-כִּזְאוֹן**
اور- رکھیں اس- پر پردہ کھال تخس اور- بچھائیں کپڑا- سارا
H5414 H3681 H5785 H8476 H6566 H3632 H8504 H4605

כִּזְאוֹן:

اس- کے- ڈنڈے
H0905

لگائیں۔ لکڑیاں کی اُنھانے کو صندوق وہ بعد کے اس بچھائیں۔ کپڑا کا رنگ نیلے طرح پوری میں آخر اور غلاف کا کھالوں کی تخس وہ پر اس

7	וְעֵלָא اور-پر	שְׁלֵחַן میز	הַפְּנִים نذر-کی	יַפְרָשׁוּ بجھائیں	בְּנֵד کپڑا	תְּכֵלֶת آسمانی	וְנִתְּנוּ اور-رکھیں	עֲלִיו اس-پر	אֶת- کو-	הַקְּעָרֹת پیالوں	וְאֶת- اور-کو-	הַכַּפֹּת پیالیوں
		H7979	H6440	H6566		H8504	H5414		H0853	H7086	H0853	H3709

אֶת- اور-کو-	הַמְּנַקֵּית کتوریوں	וְאֶת- اور-کو	קְשׁוֹת کتورے	הַנְּסֻךְ بھینٹ-کے	וְלֶחֶם اور-روٹی	הַתְּמִיד بمیشہ-کی	עֲלִיו اس-پر	וְהִיָּה: ہو
H0853	H4518	H0853	H7184	H5262	H3899	H8548		H1961

مرتبان اور برتن کے کرنے پیش نذریں کی مے پیالے، تھال، پر اُس ہے۔ جاتی کی پیش روٹی کو رب پر جس بجھائیں کپڑا کا رنگ نیلے بھی پر میز اُس وہ رہے پر اُس بھی وہ ہے ہوتی پر میز ہمیشہ روٹی جو جائیں۔ رکھے

8	וַיַּפְרָשׁוּ اور-بجھائیں	עַלֵיהֶם ان-پر	בְּנֵד کپڑا	תּוֹרְלֵעַת کیڑے	שֹׁזֵי سرخ	וְכֶסוּ اور-ڈھانکیں	אֹתוֹ اسے	בְּמִכְסָה میں-پردے	עוֹר کھال	תְּחָשׁ تخس	וְשָׂמוּ اور-رکھیں
	H6566			H8144	H3680	H0853	H4372	H5785	H8476		

אֶת- کو-	בְּדִיו: اس-کے-ڈنڈے
H0853	H0905

اُٹھانے کو میز وہ بعد کے اِس ڈالیں۔ غلاف کا کھالوں کی تخس اوپر کے اُن میں آخر کر بجھا کپڑا کا رنگ قرمزی پر چیزوں تمام اِن بیٹے کے اُس اور بارون لگائیں۔ لکڑیاں کی

9	וְלִקְחוּ اور-لیں	בְּנֵד کپڑا	תְּכֵלֶת آسمانی	וְכֶסוּ اور-ڈھانکیں	אֶת- کو-	מִנְרַת شمعدان	הַמְּאוֹר روشنی-کے	וְאֶת- اور-کو-	גִּרְתֵיהָ چراغوں	וְאֶת- اور-کو-
	H3947		H8504	H3680	H0853	H4501	H3974	H0853	H0853	

מִלְקָחֶיהָ اس-کے-گلگیروں	וְאֶת- اور-کو-	מַחְתְּתֶיהָ اس-کے-گلدانوں	וְאֶת- اور-کو	כָּל- سارے-	כָּלֵי سامان	שִׁמְנֵהָ اس-کے-تیل	אֲשֶׁר جن-سے	וְיִשְׂרְתוּ- خدمت-کرتے-ہیں-
H4457	H0853	H4289	H0853	H3605	H3627	H8081		H8334

לָהּ اس-کے-لیے	בָּהֶם: ان-سے
-------------------	------------------

کپڑا کا رنگ نیلے پر برتنوں کے تیل اور برتنوں چھوٹے کے کونلے جلتے قینچیوں، کی کترنے بتی چراغ، کے اُس یعنی پر سامان کے اُس اور دان شمع وہ رکھیں۔

10	וְנִתְּנוּ اور-رکھیں	אֹתָהּ اسے	וְאֶת- اور-کو-	כָּל- سارے-	כֵּלֶיהָ اس-کے-سامان	אֵל- میں-	מִכְסָה پردے	עוֹר کھال	תְּחָשׁ تخس	וְנִתְּנוּ اور-رکھیں	עַל- پر-
	H5414	H0853	H0853	H3605	H3627	H0413	H4372	H5785	H8476	H5414	

הַמּוֹשׁ: ڈنڈے-کے
H4132

رکھیں پر چوکھٹے ایک لئے کے جانے لے کر اُٹھا اُسے اور لپیٹیں میں غلاف کے کھالوں کی تخس وہ کچھ سب یہ

11	וְעֵלָא اور-پر	מִזְבֵּחַ قربان-گاہ	הַזֹּהֵב سونے-کی	יַפְרָשׁוּ بجھائیں	בְּנֵד کپڑا	תְּכֵלֶת آسمانی	וְכֶסוּ اور-ڈھانکیں	אֹתוֹ اسے	בְּמִכְסָה میں-پردے	עוֹר کھال	תְּחָשׁ تخس
		H4196	H2091	H6566		H8504	H3680	H0853	H4372	H5785	H8476

וְשָׂמוּ اور-رکھیں	אֶת- کو-	בְּדִיו: اس-کے-ڈنڈے
H0853		H0905

لگائیں۔ لکڑیاں کی اُٹھانے اُسے پھر اور ڈالیں غلاف کا کھالوں کی تخس پر اُس کر بجھا کپڑا کا رنگ نیلے بھی پر گاہ قربان کی سونے کی جلانے بخور وہ

17 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל- מֹשֶׁה וְאֶל- אַהֲרֹן לֵאמֹר: اور-بولہ سے- یہوواہ سے- موسیٰ اور-سے- ہوتے- ہوتے

کہا،سے ہارون اور موسیٰ نے رب

18 אֶל- תַּגְרִיתוֹ אֶת- שִׁבְטֵי מִשְׁפַּחַת קְהָתִי מִתּוֹךְ הַלְוִיִּם: نہ- کاٹو کو- قبیلہ خاندانوں-کا قہاتی-کا سے-درمیان لاویوں-کے

پائیں۔نہ مٹنے سے میں قبیلے کے لاوی کنبے کے قہات کہ ربو خیردار

19 וַיִּזְאֵת אֲרֻכּוֹ עֵשׂוֹ לֶאֱחָבִים וְחָיוּ וְלֹא יָמְתוּ יָמָם בְּנֵי-אֶת- קָדֵשׁ הַקְּדָשִׁים اور-یہ کرو اُن-کے-لئے اور-جنیں اور-نہ مریں جب-قریب-آئیں-اُن-کے کو قدس کے-قدسوں

אֶהְרֹן וּבְנָיו יָבֹאוּ וְשָׁמוּ אֹתָם אִישׁ אִישׁ עַל- עֲבֹדָתוֹ וְאֶל- ہارون اور-اُس-کے-بیٹے اور-مقرر-کریں انہیں ہر-ایک ہر-ایک پر اُس-کی-خدمت اور-پر

مُשָׂאוֹ:

اُس-کے-بوجھ

نہ وہ تاکہ بے جانا لے کر اٹھا اُسے جو جائیں لے پاس کے سامان اُس کو ایک ہر بیٹے کے اُس اور ہارون تو آئیں پاس کے چیزوں ترین مُقَدَّس وہ جب چنانچہ ربیں-جیتے بلکہ مریں

20 וְלֹא- יָבֹאוּ לְרֵאֵת כְּבָלַע אֶת- הַקְּדָשׁ וּמָתוּ: اور-نہ آئیں دیکھنے-کو جب-ڈھانپا-جائے کو قدس-کی اور-مریں

گے۔[] جائیں مر وہ ورنہ جائیں، نہ اندر لئے کے دیکھنے چیزیں مُقَدَّس بھی لئے کے لمحے ایک قہاتی

21 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל- מֹשֶׁה לֵאמֹר: اور-کہا یہوواہ-نے کو موسیٰ کہتے-ہوتے

کہا،سے موسیٰ نے رب پھر

22 נָשָׂא אֶת- רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן נֵם- הֵם לְבֵית אֲבֹתָם شمار-کرو کو سروں-کا بیٹوں-کے جیرسون-کے بھی وہ بہ-گھر اُن-کے-باپ-دادا-کے

لְמִשְׁפַּחָתָם:

بہ-خاندانوں-اُن-کے

H4940

کرنا۔مطابق کے کنبوں اور گھرانوں آبائی کے اُن بھی شماری مردم کی اولاد کی [] جیرسون

23 מִכֹּן שְׁלָשִׁים שָׁנָה וּמֵעֵלָּה עַד- בֶּן- חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקַד אֹתָם כָּל- הַבָּא سے-بیٹے تیس سال اور-اوپر تک بیٹے پچاس سال شمار-کرو انہیں ہر جو-آئے

לְצִבָּא לְצִבָּא לְעֵבֶד לְעֵבֶד עֲבָדָה בְּאֵהָל מוֹעֵד: فوج-میں فوج خدمت-کرنے خدمت میں-خیمے اجتماع-کے

ہیں۔سکتے آئے کے خدمت میں خیمے کے ملاقات اور ہیں کے سال 50 کر لے سے 30 جو کرنا درج میں رجسٹر کو مردوں تمام اُن

24	זאת	עבדת	משפחת	הגרשני	לעבר	ולמשא:
	یہ	خدمت	خاندانوں کی	جیرسونیوں کی	خدمت کرنا	اور اٹھانا
	H2063	H5656	H4940	H1649	H5647	

بیس دار ذمہ کے جانے لے کر اٹھا چیزیں یہ وہ

25	ונשא	את	יריעת	המשכן	ואת	אהל	מועד	מכסהו	ומכסה	התחש
	اور اٹھائیں	کو	پردوں	کے مسکن کے	اور کو	خیمے	اجتماع کے	اُس کا پوشش	اور پوشش	کے تخس کا
	H5375	H0853	H3407	H4908	H0853	H0168	H4150	H4372	H4372	H8476

אשר	עליו	מלמעלה	ואת	מסד	פתח	אהל	מועד:
جو	اُس پر	اوپر سے	اور کو	پردے	دروازے کے	خیمے	اجتماع کے
		H4605	H0853	H4539	H6607	H0168	H4150

پردہ کا دروازے کے خیمے پوشش، کی کھال کی تخس ہوئی رکھی پر چھت چھت، کی اُس خیمہ، کا ملاقات

26	ואת	קלעי	החצר	ואת	ומסד	ופתח	שער	החצר	אשר	על	המשכן
	اور کو	پردوں	کے صحن کے	اور کو	پردے	دروازے کے	پھانک کے	صحن کے	جو	پر	مسکن کے
	H0853			H0853	H4539	H6607	H8179				H4908

ועל	המזבח	סביב	ואת	מיתריהם	ואת	כל	כלי	עבדתם	ואת	כל
اور پر	قربانگاہ کے	چاروں طرف	اور کو	اُن کی رسیوں	اور کو	تمام	سامان	اُن کی خدمت کے	اور کو	تمام
	H4196	H5439	H0853	H4340	H0853	H3605	H3627	H5656	H0853	H3605

אשר	יעשה	להם	ועבדו:
جو	کیا جائے	اُن کے لئے	اور خدمت کریں
			H5647

بیس دار ذمہ کے کاموں تمام اُن وہ سامان باقی کا لگانے اُسے اور رسے کے اُس پردہ، کا دروازے کے چار دیواری پردے، کے چار دیواری کی گاہ قربان اور خیمے بیس منسلک سے چیزوں اِن جو

27	על	פי	אהרן	ובניו	תהיה	כל	עבדת	בני	הגרשני	לכל
	پر	منہ کے	بارون	اور اُس کے بیٹوں کے	ہو	تمام	خدمت	بیٹوں کے	جیرسونیوں کی	سب کے لئے
		H6310	H0175		H1961	H3605	H5656		H1649	H3605

משאם	ولکل	עבדתם	ופקדתם	עלהם	במשמרת	את	כל	משאם:
اُن کے بوجھ	اور سب کے لئے	اُن کی خدمت	اور مقرر کرو	اُن پر	پہرے میں	کو	تمام	اُن کے بوجھ
	H3605	H5656			H4931	H0853	H3605	

جائیں لے کر اٹھا مطابق کے ہدایات عین کچھ سب وہ کہ ربو خبردار ہو۔ مطابق کے ہدایات کی بیٹوں کے اُس اور بارون خدمت پوری کی جیرسونیوں

28	זאת	עבדת	משפחת	בני	הגרשני	באהל	מועד	ומשמרתם	בید
	یہ	خدمت	خاندانوں کی	بیٹوں کے	جیرسونیوں کے	میں خیمے	اجتماع کے	اور اُن کی نگرانی	باتھ میں
	H2063	H5656	H4940		H1649	H0168	H4150	H4931	H3027

איתמר	בן	אהרן	הכהן:
ایتامار	بیٹے	بارون کے	کابن کے
		H0175	H3548

ہے۔ مقرر پر اُن ایتمر بیٹا کا امام بارون میں کام اِس ہیں۔ دریاں ذمہ کی جیرسونیوں میں خیمے کے ملاقات سب یہ

29	בני	מררי	למשפחתם	לבית	אבתם	תפקד	אתם:
	بیٹوں کو	مراری کے	بہ خاندانوں اُن کے	بہ گھر	اُن کے باپ دادا کے	شمار کرو	انہیں
		H4847	H4940		H0001		H0853

کرنا مطابق کے کنبوں اور گھرانوں آبائی کے اُن بھی شماری مردم کی اولاد کی مراری کہا، نے رب

30	מבן	שלושים	שנה	זמעה	ועד	בן	חמשים	שנה	תפקודם	כל	הבא
	سے-بیٹے	تیس سال	سال	اور-اوپر	اور-تک	بیٹے	پچاس سال	سال	شمار-کرو-انہیں	بر	جو-آئے
	H7970	H8141	H4605	H5704	H2572	H8141	H3605	H0935			

لڈخا	لعدر	آت	عبرت	آهل	مؤعد:
فوج-میں	خدمت-کرنے	کو	خدمت	خیمے	اجتماع-کے
H5647	H0853	H5656	H0168	H4150	

ہیں۔سکتے آئے کے خدمت میں خیمے کے ملاقات اور ہیں کے سال 50 کر لے سے 30 جو کرنا درج میں رجسٹر کو مردوں تمام اُن

31	وزات	مشمרת	משאם	לכל	עברתם	באהل	מועד	קרשי	המשכן
	اور-یہ	نگرانی	اُن-کے-بوجھ-کی	سب-کے-لئے	اُن-کی-خدمت-کی	میں-خیمے	اجتماع-کے	تختے	کے-مسکن-کے
	H2063	H4931	H3605	H5656	H0168	H4150	H7175	H4908	

וגריחיו	ועמודיו	ואדניו:
اور-اُس-کے-بینڈے	اور-اُس-کے-ستون	اور-اُس-کی-چوکھٹیں
H1280	H5982	H0134

پائے، اور کھمبے شہتیر، تختے، کے دیوار ہیں: دار ذمہ کے جانے لے کر اُنہا چیزیں یہ کی خیمے کے ملاقات وہ

32	ועמודיו	החצר	סביב	ואדניהם	ויתדותם	ומיתריהם	לכל
	اور-ستون	صحن-کے	چاروں-طرف	اور-اُن-کی-چوکھٹیں	اور-اُن-کی-میخیں	اور-اُن-کی-رسیاں	سب-کے-لئے
	H5982	H5439	H0134	H3489	H4340	H3605	

כליהם	ולכל	עברתם	ובשמת	תפקודו	את	כלי	مشمרת
اُن-کے-سامان-کے	اور-سب-کے-لئے	اُن-کی-خدمت	اور-ناموں-سے	شمار-کرو	کو	سامان	نگرانی-کی
H3627	H3605	H5656	H8034	H0853	H3627	H4931	

משאם:
اُن-کے-بوجھ-کے

جائے لے کر اُنہا کیا کیا وہ کہ بتانا سے تفصیل کو ایک ہر سامان۔ کا لگانے چیزیں یہ اور رسے میخیں، پائے، کھمبے، کے چار دیواری کی خیمے پھر

33	זאת	עברת	משפחת	בני	מררי	לכל	עברתם	באהل	מועד
	یہ	خدمت	خاندانوں-کی	بیٹوں-کے	مراری-کے	سب-کے-لئے	اُن-کی-خدمت-کی	میں-خیمے	اجتماع-کے
	H2063	H5656	H4940	H4847	H3605	H5656	H0168	H4150	

בד	איתמר	בן	אהרן	הכהן:
باتھ-میں	ایتامار	بیٹے	باروں-کے	کاہن-کے
H3027	H0385	H0175	H3548	

ہو۔ مقرر پر اُن اِتمر بیٹا کا امام بارون میں کام اِس ہے۔ شامل میں داریوں ذمہ میں خیمے کے ملاقات کی مراریوں کچھ سب یہ

34	ויפקד	משה	ואהרן	ונשיאי	העדה	את	בני	הקהתי
	اور-شمار-کیا	موسی-نے	اور-باروں-نے	اور-سرداروں-نے	جماعت-کے	کو	بیٹوں-کے	قہاتیوں-کے
	H4872	H0175	H5712	H0853	H6956			

למשפחתם	ולבית	آבתם:
بہ-خاندانوں-اُن-کے	اور-بہ-گھر	اُن-کے-باپ-دادا-کے
H4940	H0001	

کی۔ مطابق کے گھرانوں آباہی اور کنبوں کے اُن شماری مردم کی قہاتیوں نے راہنماؤں کے جماعت اور بارون موسیٰ،

35	מבן	שלושים	שנה	זמעה	ועד	בן	חמשים	שנה	כל	הבא	לڈخا
	سے-بیٹے	تیس سال	سال	اور-اوپر	اور-تک	بیٹے	پچاس سال	سال	بر	جو-آیا	فوج-میں
	H7970	H8141	H4605	H5704	H2572	H8141	H3605	H0935			

לעברה	באהل	מועד:
خدمت-کے-لئے	میں-خیمے	اجتماع-کے
H5656	H0168	H4150

تعداد کل کی ان تھے۔ سکتے کر خدمت میں خیمے کے ملاقات جو اور تھے کے سال 50 کر لے سے 30 جو کیا درج میں رجسٹر کو مردوں تمام ان نے انہوں تھا۔ فرمایا معرفت کی موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,750

36 **וַיְהִי** **פְקֻדֵיהֶם** **לְמִשְׁפְּחֹתָם** **אֲלֵפִים** **שִׁבְעַת** **מֵאוֹת** **וַחֲמִשִּׁים:**
 اور-تھے **ان-کے-شمار-کیے-ہوئے** **بہ-خاندانوں-ان-کے** **دو-ہزار** **سات** **سو** **اور-پچاس**
[H1961](#) [H4940](#) [H0505](#) [H7651](#) [H3967](#) [H2572](#)

تعداد کل کی ان تھے۔ سکتے کر خدمت میں خیمے کے ملاقات جو اور تھے کے سال 50 کر لے سے 30 جو کیا درج میں رجسٹر کو مردوں تمام ان نے انہوں تھا۔ فرمایا معرفت کی موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,750

37 **אֵלֶּה** **פְּקוּדֵי** **מִשְׁפַּחַת** **חַקְהָתִי** **כָּל־** **הַעֲבָד** **בְּאֵהָל** **מוֹעֵד** **אֲשֶׁר**
 یہ **شمار-کیے-ہوئے** **خاندانوں-کے** **قہاتیوں-کے** **ہر** **جو-خدمت-کرنے-والا** **میں-خیمے** **اجتماع-کے** **جنہیں**
[H0428](#) [H4940](#) [H6956](#) [H3605](#) [H5647](#) [H0168](#) [H4150](#)

פְּקָד **מִשָּׁה** **וְאֶהֱרֹן** **עַל־** **פִּי** **יְהוָה** **בִּיד־** **מִשָּׁה:** **ס**
شمار-کیا **موسیٰ-نے** **اور-بارون-نے** **پر** **منہ-کے** **یہوواہ-کے** **باتھ-سے** **موسیٰ-کے** **س**
[H4872](#) [H0175](#) [H6310](#) [H3068](#) [H3027](#) [H4872](#)

تعداد کل کی ان تھے۔ سکتے کر خدمت میں خیمے کے ملاقات جو اور تھے کے سال 50 کر لے سے 30 جو کیا درج میں رجسٹر کو مردوں تمام ان نے انہوں تھا۔ فرمایا معرفت کی موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,750

38 **וּפְקוּדֵי** **בְּנֵי** **גֵרְשׁוֹן** **לְמִשְׁפַּחֹתָם** **וּלְבֵית** **אֲבֹתָם:**
اور-شمار-کیے-ہوئے **بیٹوں-کے** **جیرسون-کے** **بہ-خاندانوں-ان-کے** **اور-بہ-گھر** **ان-کے-باپ-دادا-کے**
[H1648](#) [H4940](#) [H0001](#)

نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,630 تعداد کل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبوں کے ان شماری مردم کی جیرسونیوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب

39 **מִזֶּן** **שְׁלֹשִׁים** **שָׁנָה** **וּמֵעֵלָּה** **וְעַד** **בֶּן־** **חֲמִשִּׁים** **שָׁנָה** **כָּל־** **הַבָּא** **לְצִבְאָ**
سے-بیٹے **تیس** **سال** **اور-اوپر** **اور-تک** **بیٹے** **پچاس** **سال** **ہر** **جو-آیا** **فوج-میں**
[H7970](#) [H8141](#) [H4605](#) [H5704](#) [H2572](#) [H8141](#) [H3605](#) [H0935](#)

לְעֵבְרָה **בְּאֵהָל** **מוֹעֵד:**
خدمت-کے-لئے **میں-خیمے** **اجتماع-کے**
[H5656](#) [H0168](#) [H4150](#)

نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,630 تعداد کل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبوں کے ان شماری مردم کی جیرسونیوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب

40 **וַיְהִי** **פְקֻדֵיהֶם** **לְמִשְׁפַּחֹתָם** **לְבֵית** **אֲבֹתָם** **אֲלֵפִים** **וְשָׁשׁ** **מֵאוֹת**
اور-تھے **ان-کے-شمار-کیے-ہوئے** **بہ-خاندانوں-ان-کے** **بہ-گھر** **ان-کے-باپ-دادا-کے** **دو-ہزار** **اور-چھ** **سو**
[H1961](#) [H4940](#) [H0001](#) [H0505](#) [H8337](#) [H3967](#)

וְשֵׁשׁ:
اور-تیس
[H7970](#)

نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,630 تعداد کل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبوں کے ان شماری مردم کی جیرسونیوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب

41 **אֵלֶּה** **פְּקוּדֵי** **מִשְׁפַּחַת** **בְּנֵי** **גֵרְשׁוֹן** **כָּל־** **הַעֲבָד** **בְּאֵהָל** **מוֹעֵד**
یہ **شمار-کیے-ہوئے** **خاندانوں-کے** **بیٹوں-کے** **جیرسون-کے** **ہر** **جو-خدمت-کرنے-والا** **میں-خیمے** **اجتماع-کے**
[H0428](#) [H4940](#) [H1648](#) [H3605](#) [H5647](#) [H0168](#) [H4150](#)

אֲשֶׁר **פְּקָד** **מִשָּׁה** **וְאֶהֱרֹן** **עַל־** **פִּי** **יְהוָה:**
جنہیں **شمار-کیا** **موسیٰ-نے** **اور-بارون-نے** **پر** **منہ-کے** **یہوواہ-کے**
[H4872](#) [H0175](#) [H6310](#) [H3068](#)

نے بارون اور موسیٰ تھی۔ 2,630 تعداد کل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبوں کے ان شماری مردم کی جیرسونیوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ سب

42	وּפְקוּדֵי	מִשְׁפָּחַת	בְּנֵי	מְרָרִי	לְמִשְׁפָּחָתָם	לְבֵית	אַבְתָּם:
	اور-شمار-کیے-بوئے	خاندانوں-کے	بیٹوں-کے	مراری-کے	بہ-خاندانوں-آن-کے	بہ-گھر	آن-کے-باپ-دادا-کے
	H4940	H4940	H4847	H4940	H4940	H0001	H0001

سب نے ہارون اور موسیٰ تھی۔ 3,200 تعداد کُل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبنوں کے اُن شماری مردم کی مراریوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ

43	מִזְבֵּן	שְׁלֹשִׁים	שָׁנָה	וּמַעֲלָה	וְעַד	בֶּן-	חֲמִשִּׁים	כָּל-	הַבָּא	לְצִבָּא
	سے-بیٹے	تیس	سال	اور-اوپر	اور-تک	بیٹے	پچاس	پر	جو-آیا	فوج-میں
	H7970	H8141	H4605	H5704	H2572	H8141	H3605	H0935	H0935	H0935
	לְעֵבְרָה	בְּאֶהָל	מוֹעֵד:							
	خدمت-کے-لئے	میں-خیمے	اجتماع-کے							
	H5656	H0168	H4150							

سب نے ہارون اور موسیٰ تھی۔ 3,200 تعداد کُل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبنوں کے اُن شماری مردم کی مراریوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ

44	וַיְהִי	פְקֻדֵיהֶם	לְמִשְׁפָּחָתָם	שְׁלֹשָׁת	אַלְפִים	וּמֵאתָיִם:
	اور-تھے	آن-کے-شمار-کیے-بوئے	بہ-خاندانوں-آن-کے	تین	ہزار	اور-دو-سو
	H1961	H4940	H7969	H0505	H3967	H3967

سب نے ہارون اور موسیٰ تھی۔ 3,200 تعداد کُل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبنوں کے اُن شماری مردم کی مراریوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ

45	אֶלֶּה	פְּקוּדֵי	מִשְׁפָּחַת	בְּנֵי	מְרָרִי	אַשֶׁר	פָּקֵד	מִנְשָׁה	וְאֶהָרֹן	עַל-
	یہ	شمار-کیے-بوئے	خاندانوں-کے	بیٹوں-کے	مراری-کے	جنہیں	شمار-کیا	موسیٰ-نے	اور-ہارون-نے	پر
	H0428	H4940	H4847	H4847	H4872	H4872	H4872	H0175	H0175	H0175
	פִי	יְהוּוָה	בִּיד-	מִנְשָׁה:						
	منہ-کے	یہوواہ-کے	باتھ-سے	موسیٰ-کے						
	H6310	H3068	H3027	H4872						

سب نے ہارون اور موسیٰ تھی۔ 3,200 تعداد کُل کی مردوں لائق کے خدمت ہوئی۔ مطابق کے گھرانوں آبائی اور کنبنوں کے اُن شماری مردم کی مراریوں پھر تھا۔ فرمایا ذریعے کے موسیٰ نے رب جیسا کیا ہی ویسا کچھ

46	כָּל-	הַפְּקוּדִים	אַשֶׁר	פָּקֵד	מִנְשָׁה	וְאֶהָרֹן	וּנְשֵׁיאֵי	יִשְׂרָאֵל	אֶת-
	سب	شمار-کیے-بوئے	جنہیں	شمار-کیا	موسیٰ-نے	اور-ہارون-نے	اور-سرداروں-نے	اسرائیل-کے	کو
	H3605	H0175	H4872	H0175	H4872	H0175	H3478	H0853	H0853
	הַלְוִיִּם	לְמִשְׁפָּחָתָם	וּלְבֵית	אַבְתָּם:					
	لاویوں-کے	بہ-خاندانوں-آن-کے	اور-بہ-گھر	آن-کے-باپ-دادا-کے					
	H3881	H4940	H4940	H0001					

تھا۔ جانا لے کر اُٹھا اُسے وقت کرتے سفر اور کرنا خدمت میں خیمے کے ملاقات جنہیں تھی 8,580 تعداد کُل کی مردوں اُن کے لاویوں

47	מִזְבֵּן	שְׁלֹשִׁים	שָׁנָה	וּמַעֲלָה	וְעַד	בֶּן-	חֲמִשִּׁים	כָּל-	הַבָּא	לְעֵבְרָה
	سے-بیٹے	تیس	سال	اور-اوپر	اور-تک	بیٹے	پچاس	پر	جو-آیا	خدمت-کرنے
	H7970	H8141	H4605	H5704	H2572	H8141	H3605	H0935	H5647	H5656
	עֵבְרָה	וְעֵבְרַת	מִשָּׂא	בְּאֶהָל	מוֹעֵד:					
	خدمت-کی	اور-خدمت	بوجھ-کی	میں-خیمے	اجتماع-کے					
	H5656	H5656	H0168	H4150						

تھا۔ جانا لے کر اُٹھا اُسے وقت کرتے سفر اور کرنا خدمت میں خیمے کے ملاقات جنہیں تھی 8,580 تعداد کُل کی مردوں اُن کے لاویوں

48	וַיְהִי	פְּקֻדֵיהֶם	שְׁמֹנֶת	אַלְפִים	וּחֲמִשָּׁ	מֵאוֹת	וּשְׁמֹנִים:
	اور-تھے	آن-کے-شمار-کیے-بوئے	آٹھ	ہزار	اور-پانچ	سو	اور-اسی
	H1961	H8083	H0505	H2568	H3967	H8084	H8084

تھا۔ جانا لے کر اُٹھا اُسے وقت کرتے سفر اور کرنا خدمت میں خیمے کے ملاقات جنہیں تھی 8,580 تعداد کُل کی مردوں اُن کے لایوں

49	עַל-	פִּי	יְהוָה	פָּקֵד	אֹתָם	בְּדַבַּר-	מֹשֶׁה	אִישׁ	אִישׁ	עַל-	עֲבֹדָתוֹ
	پر	منہ-کے	یہوواہ-کے	شمار-کیا	اُنہیں	باتھ-سے	موسیٰ-کے	بر-ایک	بر-ایک	پر	اُس-کی-خدمت
		H6310	H3068	H0853	H3027	H4872	H0376	H0376	H0376		H5656
	اور-پر	اُس-کے-بوجھ	اور-اُس-کے-شمار-کیے-بوئے	اُنہیں	حکم-دیا	یہوواہ-نے	کو	موسیٰ	موسیٰ:		
					H6680	H3068	H0853	H4872			

شماری مردم کی اُن یوں ہے۔ جانا لے کر اُٹھا کیا کیا اُسے کہ بتایا اُسے اور سونپی داری ذمہ اپنی اپنی کی اُس کو ایک ہر مطابق کے حکم کے رب نے موسیٰ تھا۔ دیا معرفت کی موسیٰ نے اُس جو گئی کی مطابق عین کے حکم اُس کے رب